



سوال

(15) کیا شگون بد کوئی چیز ہے؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا شگون بد کوئی چیز ہے؟ (2) کسی متعین تاریخ یا دن منیے کو منحوس جاننا یا کسی پرندے مثلاً: کوا، آلو وغیرہ کے مکان کی صحت پر یا مکان کے اندر، یا باہر قریب کے درخت پر بیٹھ کر بولنے کو منحوس خیال کرنا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فلاں قسم کی جانور کا گھر میں رہنا باعث نحوست ہے۔ مثلاً: فلاں فلاں نشان والا گھوڑا پلنے سے گھر میں بے برکتی و تزیلی ہوتی ہے۔ اور فلاں فلاں رنگ والے گھوڑا، گائے، بیل باعث برکت ہوتے ہیں۔ (4) بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ گھریا دکان کی دہلیز کا فلاں فلاں رخ رہنا باعث تنزلی۔ اور فلاں فلاں رخ رہنا باعث برکت ہے۔

(5) بعض لوگ فلاں تاریخ فلاں دن یا ماہ میں سفر کرنے کو مبارک خیال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آن حضرت ﷺ نے فرمایا کہ: مکان گھوڑا، عورت میں نحوست ہوتی ہے،، (بخاری کتاب الطب باب الطیرۃ (7 26)، مسلم کتاب السلام باب والفال (2225) 4 4 (1747)

کیا یہ سچ ہے؟ مہربانی سے ہر ایک پر خصوصاً مکان، گھوڑا، عورت، پر مفصل روشنی ڈالیں۔ عبد الحمید جویا

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

شرعاً شگون بد کوئی چیز نہیں ہے، بد شگونی درست اور جائز نہیں۔ پس بعض تاریخوں یا بعض مہینوں کو منحوس جاننا، یا بعض پرندوں کے گھروں پر بیٹھ کر بولنے کو منحوس خیال کرنا، یا بعض جانوروں کی سکونت کو منحوس جاننا، یا کسی خاص تاریخ یا معین دن یا منیے میں سفر کرنے کو مبارک سمجھنا، یا گھر دکان کی دہلیز کے فلاں رخ رہنے کو باعث تنزلی اور فلاں رخ کی رہنے کو باعث ترقی و برکت سمجھنا درست نہیں ہے۔ بہت سی حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ نہ مرد میں، نہ عورت میں، نہ گھوڑے میں، اور نہ کسی اور چیز میں اور بعض حدیثوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ عورت، مکان، گھوڑے میں نحوست ہے۔

امام مالک رحمہ اللہ اور ایک گروہ کا قول انہیں بعض حدیثوں کے موافق ہے، یعنی: یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی قضا سے یہ تینوں چیزیں ضرور نقصان یا ہلاکت کا ظاہر می سبب ہوتی ہیں، یعنی: یہ تینوں چیزیں بدانتہا و بطبعاً موثر نہیں ہیں اور ان میں ذاتی و خلقی طبعی نحوست نہیں ہے۔ ورنہ لازم آئے گا کہ کوئی عورت یا کوئی گھوڑا یا کوئی مکان باعث خیر و برکت نہ ہو، بلکہ موثر حقیقی و بالذات اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا ہے بعض عورتوں اور بعض مکانوں اور گھوڑوں کو ضرر یا ہلاکت کا سبب بنا دیتا ہے۔ یہ گروہ ان بہت سی حدیثوں کو جن سے مطلقاً نحوست کی نفی ثابت ہوتی ہے تاثیر بالذات اور شوم ذاتی، نحوست طبعی و خلقی کی نفی پر محمول کرتا ہے، اور جن حدیثوں سے نحوست کا ان

